

# Exo

## Chapter 21

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לְפָנֶיהֶם: اور-یہ احکام جو ٹو-رکھے-گا اُن-کے-سامنے  
H0428 H4941 H6440

بتا، احکام یہ کو اسرائیلیوں

2 כִּי תָקַנְהָ תֹכְרִידַע עֶבֶד עֶבְרִי שָׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד וּבְשִׁבְעַת יָצָא לְחֶפְשִׁי חֲנָם: جب ٹو-خریدے غلام عہد عہدِی چھ سال خدمت-کے-گا اور-ساتویں-میں نکلے-گا آزادی-سے مفت  
H7069 H5650 H5680 H8337 H8141 H5647 H7637 H3318 H2670 H2600

ضرورت کی دینے پیسے اُسے لئے کے ہونے آزاد جائے۔ دیا کر آزاد اُسے کہ بے لازم بعد کے اِس رہے۔ غلام تیرا سال چھ وہ تو خریدے غلام عبرانی ٹو اگر گی-بو نہیں

3 אִם-בְּנִפּוֹ יָבֵא יָבִיא בְּנִפּוֹ אִם-בְּעַל אִשָּׁה הָיָא וְיָצָא אִשָּׁתּוֹ اگر اکیلا آیا اکیلا اگر صاحب بیوی-کا وہ اور-نکلے-گی اُس-کی-بیوی  
H1610 H0935 H1610 H3318 H1167 H0802 H1931 H0802

عَمּוֹ:

اُس-کے-ساتھ

بیوی اپنی وہ کہ بے لازم تو ہو آیا میں حالت شدہ شادی وہ اگر جائے۔ چلا ہی اکیلا کر ہو آزاد وہ تو ہو آیا گھر کے مالک میں حالت شدہ غیرشادی غلام اگر جائے۔ کر ہو آزاد سمیت

4 אִם-אֲדֹנָיו יִתֵּן-לּוֹ אִשָּׁה לֹא אֲדֹנָיו יִתֵּן-לּוֹ אִם-אֲדֹנָיו יִתֵּן-לּוֹ אִם-אֲדֹנָיו יִתֵּן-لּוֹ اگر اُس-کا-مالک دے-گا اُسے بیوی اور-پیدا-کے-گی اُسے یا بیٹیاں بیوی  
H0113 H5414 H0802 H3205 H1323 H0802

וְיִקְרָא וְהָיָה לְאֲדֹנָיָהּ אִם-אֲדֹנָיו יִתֵּן-לּוֹ אִם-אֲדֹנָיו יִתֵּן-لּוֹ اور-اُس-کے-بچے ہوں-گے اُس-کے-مالک-کے-لیے اور-وہ نکلے-گا اکیلا  
H3206 H1961 H0113 H1931 H3318 H1610

تو جائے کر ہو آزاد غلام جب بعد کے سال چھ گے۔ ہوں ملکیت کی مالک بچے اور بیوی کی اُس تو ہیں ہوئے پیدا بچے اور کرائی شادی کی غلام نے مالک اگر رہیں۔ پاس کے ہی مالک بچے اور بیوی کی اُس

5 וְאִם-אֲמַר אֲמַר יְאֹמַר הָעֶבֶד מַחֲבֵבִי אֶת-אֲדֹנָיָהּ אֶת-אֲשֶׁתִּי וְאֶת-בְּנֵי אֲשֶׁתִּי اور-اگر کہتے-ہوئے کہے-گا غلام مجھے-پیارے سے اپنے-مالک سے اپنے-بیوی اور-سے اپنے-بیٹوں  
H0559 H0559 H5650 H0157 H0853 H0113 H0853 H0802 H0853

لֹא אֲצָא חֶפְשִׁי: میں-نکلوں-گا آزاد  
H3808 H3318 H2670

چاہتا ہونا نہیں آزاد میں ہوں، رکھتا محبت سے بچوں بیوی اپنے اور مالک اپنے میں کہے، غلام اگر

6	וְהִנֵּשׂוּ اور-لائے-گا-اُسے H5066	אֶדְוִי اُس-کا-مالک H0113	אֶל- کی-طرف H0413	הַאֱלֹהִים خدا H0430	וְהִנֵּשׂוּ اور-لائے-گا-اُسے H5066	אֶל- کی-طرف H0413	הַדְּלֶת دروازہ H0413	אוּ یا H0413	אֶל- کی-طرف H0413
---	--	---------------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------

ס	הַמְּזוּזָה چوکھٹ H4201	וְרָצַע اور-چھیدے-گا H7527	אֶדְוִי اُس-کا-مالک H0113	אֶת- کو H0853	אָזְנוֹ اُس-کا-کان H0241	בְּמַרְצֵעַ آری-سے H4836	וְעִבְדוּ اور-خدمت-کرے-گا-اُس-کی H5647	לְעַלְמָם: بمیشہ H5769	ס [پ]
---	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------	----------

دے۔ چھید لو کی کان کے اُس سے اوزار تیز یعنی سُتالی اور جائے لے پاس کے چوکھٹ کی اُس یا دروازے اُسے وہ لائے۔ سامنے کے اللہ اُسے مالک کا غلام تو گا۔ رہے بنا غلام کا اُس بھر زندگی وہ تب

7	וְכִי- اور-جب H4376	יִמְכַר بیچے-گا H0376	אִישׁ آدمی H0853	אֶת- کو H0853	בְּתוֹ اپنی-بیٹی H1323	לְאִמָּה لونڈی-کے-طور-پر H0519	לֹא نہیں H3808	תֵּצֵא نکلے-گی H3318	כְּצֵאת جیسے-نکلے H3318	הָעֶבְדִּים: غلام H5650
---	---------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

ہیں۔ فرق سے مرد شرائط کی ملنے آزادی لئے کے اُس تو ڈالے بیچ میں غلامی کو بیٹی اپنی کوئی اگر

8	אִם- اگر H5237	רָעָה بری H4376	בְּעֵינַי نظروں-میں H0376	אֶדְוִי اُس-کے-مالک H0113	אֲשֶׁר- جس-نے H0519	לֹא نہیں H3808	יְעַדָּה منگنی-کی H3259	וְהִפְדָּה اور-چھڑائے-اُسے H6299	לְעַם لوگوں-کو
---	----------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	--	-------------------

נְכָרִי اجنبی H5237	לֹא- نہیں H3808	יִמְשַׁל اختیار-رکھتا H4910	לְמַכְרָה بیچنے-کا H4376	בְּבִדּוֹ- بے-وفائی-میں H0898	בָּה: اُس-کے-ساتھ
---------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------------

کے اُس اُسے کر لے معاوضہ مناسب وہ کہ بے لازم تو اُسے نہ پسند اُسے وہ میں بعد لیکن جائے، بن بیوی کی اُس وہ کہ کیا منتخب اُسے نے مالک کے اُس اگر ہے۔ کیا سلوک بے وفا ساتھ کے اُس نے اُس کیونکہ ہے، نہیں اختیار کا بیچنے ہاتھ کے غیرملکیوں کو عورت اُسے دے۔ کر واپس کو داروں رشتے

9	וְאִם- اور-اگر H5237	לְבָנוּ اپنے-بیٹے-کے-لیے H3259	יִיעַדְנָה منگنی-کرے-گا-اُسے H3259	כְּמִשְׁפַּחַת قانون-کے-مطابق H4941	הַבְּנוֹת بیٹیوں H1323	יַעֲשֶׂה- کرے-گا H5772	לָהּ: اُس-کے-لیے
---	----------------------------	--------------------------------------	--	---	------------------------------	------------------------------	---------------------

گے۔ ہوں حاصل حقوق کے بیٹی کو عورت تو کرائے شادی ساتھ کے بیٹے اپنے کی اُس مالک کا لونڈی اگر

10	אִם- اگر H0312	אֶחָרָת دوسری H3947	יָקַח- لے-گا H3947	לֹא اپنے-لیے H7607	שְׂאֵרָה اُس-کا-کھانا H3682	כְּסוּתָהּ اور-اُس-کا-حق H5772	לֹא نہیں H3808	יִנָּדֶע: گھٹائے-گا H1639
----	----------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------------------

کے اُس علاوہ کے اِس رہے۔ دیتا کپڑے اور کھانا بھی کو پہلی وہ کہ بے لازم تو کی شادی بھی سے عورت دوسری میں بعد کے کر شادی سے اُس نے مالک اگر ہے۔ کرنا ادا بھی فرض کا ہونے بستر ہم ساتھ

11	וְאִם- اور-اگر H7969	שָׁלַשׁ- تین H0428	אֶלָּה یہ H0428	לֹא نہیں H3808	יַעֲשֶׂה کرے-گا H3808	לָהּ اُس-کے-لیے H3318	וְיִצְאָה اور-نکلے-گی H3318	חֲנֹם مفت H2600	אֵין بغیر H0369	כְּסָף: رقم H3701	ס [پ]
----	----------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	----------

گا۔ ہو کرنا آزاد مفت اُسے میں صورت اِس گا۔ پڑے کرنا آزاد کو عورت اُسے تو کرے نہ ادا فرائض تین یہ وہ اگر

12	מָכָה مارنے-والا H5221	אִישׁ آدمی-کو H0376	וְנָתַת اور-مر-جائے H4191	מֹות مرتے-ہوئے H4191	יָמֹות: مارا-جائے H4191
----	------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

ہے۔ دینا موت سزائے ضرور اُسے تو جائے مر وہ کہ ہو مارتا سخت اِتنا کر بوجھ جان کو کسی جو

13	וְאִשְׁרָה	לֹא	צָרָה	וְהֶאֱלֵהִים	אֲנָה	לִירוֹ	וְשִׁמְתִי	לְךָ	מִזְכּוֹם
	اور-جس نے	نہیں	گھات-لگائی	اور-خدا نے	موقعہ-دیا	اُس-کے-ہاتھ	اور-مقرر-کروں-گا-میں	تیرے-لیے	جگہ
		<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0579</a>	<a href="#">H3027</a>			<a href="#">H4725</a>

جہاں بھاگے وہاں [پ] س  
 یونس: [پ] س  
[H8033](#) [H5127](#)

کروں مقرر میں جو بے سکتا لے پناہ جگہ ایسی ایک والا مارنے تو دیا، ہونے یہ نے اللہ اور ہوا سے اتفاق یہ بلکہ مارا نہ کر بوجھ جان اُسے نے اُس اگر لیکن گی۔ ہو نہیں اجازت کی جانے کئے قتل اُسے وہاں گا۔

14	וְכִי-	יָדָד	אִישׁ	עַל-	רָעָהוּ	לְהִרְגוֹ	בְּעָרְמָה	מֵעַם	מִזְבְּחִי
	اور-جب	بد-نیتی-کرے	آدمی	خلاف	اپنے-پڑوسی	مارنے-کو-اُسے	چالاکی-سے	پاس-سے	میری-قربان-گاہ
		<a href="#">H2102</a>	<a href="#">H0376</a>		<a href="#">H7453</a>	<a href="#">H2026</a>	<a href="#">H6195</a>		<a href="#">H4196</a>

تَقْتُلُوهُ لِمَوْتِهِ: [پ] س  
 لے-اُسے مارنے-کو [پ] س  
[H4191](#) [H3947](#)

بے۔ دینا موت سزائے کر چھین بھی سے گاہ قربان میری اُسے بے ڈالتا مار کو کسی سے چالاکی اور دانستہ دیدہ جو لیکن

15	וּמִכָּה	אָבִיו	וְאִמּוֹ	מוֹת	יוֹמָת:
	اور-مارنے-والا	اپنے-باپ-کو	اور-اپنی-ماں-کو	مرتے-ہوئے	مارا-جائے
	<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H4191</a>

جائے۔ دی موت سزائے اُسے بے پیٹتا مارتا کو ماں اپنی یا باپ اپنے جو

16	וְזָנַב	אִישׁ	וּמְכָרוֹ	וְנִמְצָא	בְּיָדוֹ	מוֹת	יוֹמָת:	[پ] س
	اور-چوری-کرنے-والا	آدمی-کو	اور-بیچے-اُسے	اور-پایا-جائے	اُس-کے-ہاتھ-میں	مرتے-ہوئے	مارا-جائے	[پ] س
	<a href="#">H1589</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H4376</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H4191</a>	[پ] س

ہو۔ ہوا رکھا پاس اپنے تک اب اُسے یا ہو چکا بیچ کر بنا غلام اُسے وہ چاہے جائے، دی موت سزائے اُسے بے لیا کر اغوا کو کسی نے جس

17	וּמִקְלָל	אָבִיו	וְאִמּוֹ	מוֹת	יוֹמָת:	[پ] س
	اور-لعنت-کرنے-والا	اپنے-باپ-کو	اور-اپنی-ماں-کو	مرتے-ہوئے	مارا-جائے	[پ] س
	<a href="#">H7043</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H4191</a>	[پ] س

جائے۔ دی موت سزائے اُسے کرے لعنت پر ماں یا باپ اپنے جو

18	וְכִי-	יְרִיבֵן	אֲנָשִׁים	וְהִקְהֶה-	אִישׁ	אֶת-	רָעָהוּ	בְּאָבִוֹ	אֹ	בְּאִרְרָה	וְלֹא
	اور-جب	جھگڑیں	آدمی	اور-مارے	آدمی	کو	اپنے-پڑوسی	پتھر-سے	یا	مکے-سے	اور-نہیں
		<a href="#">H7378</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7453</a>	<a href="#">H0068</a>		<a href="#">H0106</a>	<a href="#">H3808</a>

יָמוֹת מַרְ: [پ] س  
 اور-گر-پڑے [H5307](#)  
 لَمְשַׁקְב: [H4904](#)  
 بستر-پر

ہو۔ سکتا نہ اُٹھ سے بستر وہ جائے بچ وہ گو کہ دے کر زخمی اتنا سے مَکے یا پتھر کو دوسرے شخص ایک اور جھگڑیں آدمی کہ بے سکتا ہو

19	אִם-	יָקוּם	וְהִתְהַלַּךְ	בְּחוּץ	עַל-	מוֹשְׁעֵנָהּ	וְנָקָה	הַמִּכָּה	רַק	שִׁבְתָּהּ
	اگر	اُٹھے	اور-چلے	باہر	اوپر	اپنی-لاٹھی	اور-بے-قصور-ہو-گا	مارنے-والا	صرف	اُس-کی-بیماری
			<a href="#">H1980</a>	<a href="#">H2351</a>			<a href="#">H5352</a>	<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H7535</a>	<a href="#">H7674</a>

יָתֵן: [پ] س  
 اور-شفا-دلالتے-ہوئے [H7495](#)  
 اِشָׁף: [پ] س  
 شفا-دلالتے-گا [H7495](#)  
 دے-گا [H5414](#)

وقت اُس صرف اُسے گی۔ ملے نہیں سزا کو والے پہنچانے چوٹ تو سکے پھر چل سہارے کے لائھی کر اُٹھ دوبارہ کہ پائے شفا تک یہاں مریض میں بعد اگر بے۔ کروانا علاج پورا کا اُس اُسے ہی ساتھ سکے۔ کما نہ پیسے مریض تک جب گا پڑے دینا معاوضہ لئے کے

20	וְכִי- اور-جب	יָכֹה مارے	אִישׁ آدمی	אֶת- کو	עֲבָדוּ اپنے-غلام	אוּ یا	אֶת- کو	אִמְתּוֹ اپنی-لونڈی	בְּשִׁבְטָה لاٹھی-سے	וּמָת اور-مر-جائے	תַּחַת نیچے
		<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0519</a>	<a href="#">H7626</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H8478</a>	

יָדוּ  
اُس-کے-باتھ

נָקָם  
انتقام-لیتے-بوئے

יִנְקָם:  
انتقام-لیا-جائے

[H3027](#)

[H5358](#)

[H5358](#)

جائے۔ دی سزا اُسے جائے مر وہ کہ مارے یوں سے لاٹھی کو لونڈی یا غلام اپنے جو

21	אֶךָ مگر	אִם- اگر	יּוֹם دن	אוּ یا	יּוֹמִים دو-دن	יַעֲמֹד کھڑا-رہے	לֹא نہیں	יָקָם انتقام-لیا-جائے-گا	כִּי کیونکہ	כִּסְפוֹ اُس-کا-رویہ	הוּא: وہ-ہے
	<a href="#">H0389</a>		<a href="#">H3117</a>		<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5358</a>		<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H1931</a>

ס  
]پ[

اُسے نقصان کا اُس تھی دی لئے کے اُس نے اُس رقم جو کیونکہ جائے۔ دی نہ سزا کو مالک تو رہے زندہ دن دو یا ایک بعد کے پٹائی لونڈی یا غلام اگر لیکن  
گا۔ پڑے اُنہانا خود

22	וְכִי- اور-جب	יִנְצְוּ لڑیں	אֲנָשִׁים آدمی	וְנִיפּוּ اور-چوٹ-لگے	אִשָּׁה عورت-کو	הָרְהָ حاملہ	וְיִצְאוּ اور-نکلیں	וְלֹא اور-نہیں	יְהִיָּה ہو	אֶסּוֹן نقصان
		<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H5062</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H3206</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0611</a>

עֲנֹשׁ  
جرمانہ-کیا-جائے-بوئے

יַעֲזֹב  
جرمانہ-کیا-جائے-گا

כְּאִשֶּׁר  
جیسا

יִשְׁתַּ  
مقرر-کرے-گا

עָלִיוּ  
اُس-پر

בְּעַל  
شوہر

הָאִשָּׁה  
عورت-کا

וְנָתַן  
اور-دے-گا

[H6064](#)

[H6064](#)

[H7896](#)

[H1167](#)

[H0802](#)

[H5414](#)

בְּפִלְלִים:  
قاضیوں-کے-ذریعے

[H6414](#)

ہو ہوا نہ نقصان اور کوئی اگر جائے۔ ہو ضائع بچہ کا اُس کہ جائیں ٹکرا یوں سے عورت حاملہ کسی لڑتے لڑتے اور ہوں رہے لڑ میں آپس لوگ کہ بے سکتا ہو  
ہو۔ تصدیق کی اس میں عدالت اور کرے، مقرر جرمانہ یہ شوہر کا عورت گا۔ پڑے دینا جرمانہ کو والے پہنچانے ضرب تو

23	וְאִם- اور-اگر	אֶסּוֹן نقصان	יְהִיָּה ہو	וְנָתַתָּה اور-دے-گا	נִפְשׁ جان	תַּחַת بدلے	נִפְשׁ جان	תַּחַת بدلے	נִפְשׁ: جان
		<a href="#">H0611</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H5315</a>

جان، بدلے کے جان کہ۔ جائے دی سزا مطابق کے اصول اس کو والے پہنچانے ضرب پھر تو ہو پہنچا بھی نقصان اور کو عورت اُس اگر لیکن

24	עֵינָיו آنکھ	תַּחַת بدلے	עֵינָיו آنکھ	שָׁן دانت	תַּחַת بدلے	שָׁן دانت	יָד ہاتھ	תַּחַת بدلے	יָד ہاتھ	תַּחַת بدلے	תַּחַת بدلے
	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H8127</a>	<a href="#">H8127</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H8127</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H7272</a>

پاؤں، بدلے کے پاؤں ہاتھ، بدلے کے ہاتھ دانت، بدلے کے دانت آنکھ، بدلے کے آنکھ

25	כּוֹיָהָ جلنا	תַּחַת بدلے	כּוֹיָהָ جلنے	פָּצַע زخم	תַּחַת بدلے	פָּצַע زخم	חֲבוּרָה چوٹ	תַּחַת بدلے	חֲבוּרָה: چوٹ	ס ]پ[
	<a href="#">H3555</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H3555</a>	<a href="#">H6482</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H6482</a>	<a href="#">H2250</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H2250</a>	

کاٹ۔ بدلے کے کاٹ مار، بدلے کے مار زخم، کا جلنے بدلے کے زخم کے جلنے

26	וְכִי- اور-جب	יָכָה مارے	אִישׁ آدمی	אֶת- کو	עֵינָיו آنکھ	עֵבְדוֹ اپنے-غلام-کی	אֶז- یا	אֶת- کو	עֵינָיו آنکھ	אֶמְתּוֹ اپنی-لونڈی-کی	וְשָׁחָתָה اور-خراب-کرے
		<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0519</a>	<a href="#">H7843</a>

לְחַפְּשֵׁי  
آزادی-سے

יְשַׁלְּחֵנוּ  
بھیجے-گا-آسے

תַּחַת  
بدلے

עֵינָיו :  
آس-کی-آنکھ

ס  
[پ]

[H2670](#) [H7971](#) [H8478](#)

عورت یا ہو مرد غلام چاہے گا، پڑے کرنا آزاد بدلے کے آنکھ کو غلام آسے تو جائے ہو ضائع وہ کہ مارے یوں پر آنکھ کی غلام اپنے مالک کوئی اگر

27	וְאִם- اور-اگر	שָׁן دانت	עֵבְדוֹ اپنے-غلام-کا	אֶז- یا	שָׁן دانت	אֶמְתּוֹ اپنی-لونڈی-کا	יָפִיל گرائے	לְחַפְּשֵׁי آزادی-سے	יְשַׁלְּחֵנוּ بھیجے-گا-آسے	תַּחַת بدلے
		<a href="#">H8127</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H8127</a>	<a href="#">H8127</a>	<a href="#">H0519</a>	<a href="#">H5307</a>	<a href="#">H2670</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H8478</a>

שָׁן :  
آس-کے-دانت

פ  
[پ]

[H8127](#)

عورت یا ہو مرد غلام چاہے گا، پڑے کرنا آزاد بدلے کے دانت کو غلام آسے تو جائے ٹوٹ دانت کا غلام سے پیٹنے کے مالک اگر

28	וְכִי- اور-جب	יָנַח سینگ-مارے	נְשׂוֹר بیل	אֶת- کو	אִישׁ آدمی	אֶז یا	אֶת- کو	אִשָּׁה عورت	וְנָתַת اور-مر-جائے	סָקוֹל سنگسار-کرتے-بوئے
		<a href="#">H5055</a>	<a href="#">H7794</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H5619</a>	<a href="#">H5619</a>

יְסַקֵּל  
سنگسار-کیا-جائے

הַנְּשׂוֹר  
بیل

וְלֹא  
اور-نہیں

יֵאָכֵל  
کھایا-جائے-گا

אֶת-  
کو

בְּשָׂרוֹ  
آس-کا-گوشت

וּבְעַל  
اور-مالک

הַנְּשׂוֹר  
بیل-کا

נָקִי :  
بے-قصور

[H5619](#) [H7794](#) [H3808](#) [H0398](#) [H0853](#) [H1320](#) [H1167](#) [H7794](#)

میں صورت اس ہے۔ نہیں اجازت کی کھانے گوشت کا اس جائے۔ کیا سنگسار کو بیل آس تو جائے مر وہ کہ مارے ایسا کو عورت یا مرد کسی بیل کوئی اگر جائے۔ دی نہ سزا کو مالک کے بیل

29	וְאִם اور-اگر	נְשׂוֹר بیل	נָנַח سینگ-مارنے-والا	הוּא وہ	מִתְנַמֵּל پہلے-سے	שְׁלֹשִׁים پرسوں	וְהוֹעֵד اور-آگاہ-کیا-تھا	בְּבַעֲלוֹ آس-کے-مالک-کو	וְלֹא اور-نہیں
		<a href="#">H7794</a>	<a href="#">H5056</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H8543</a>	<a href="#">H8032</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H1167</a>	<a href="#">H3808</a>

יְשַׁמְרֵנוּ  
باندھا-آسے

וְהָמִית  
اور-مار-دیا

אִישׁ  
آدمی

אֶז  
یا

אִשָּׁה  
عورت

הַנְּשׂוֹר  
بیل

יְסַקֵּל  
سنگسار-کیا-جائے

וְנָתַת  
اور-بھی

בְּבַעֲלוֹ  
آس-کا-مالک

יְיָמָת :  
مارا-جائے-گا

[H8104](#) [H4191](#) [H0376](#) [H0802](#) [H7794](#) [H5619](#) [H1571](#) [H1167](#) [H4191](#)

مار کو کسی نے آس میں نتیجے کے جس تھا چھوڑا کھلا کو بیل نے آس تو بھی ہے، مارتا کو لوگوں بیل کہ تھا گیا آگاہ پہلے کو مالک کہ بے سکتا ہو لیکن بے کرنا سنگسار بھی کو مالک کے آس بلکہ کو بیل صرف نہ میں صورت ایسی ڈالا۔

30	אִם- اگر	כֶּפֶר فدیہ	יּוֹשֵׁת مقرر-کیا-جائے	עֲלָיו آس-پر	וְנָתַת اور-دے-گا	כֶּהָרִץ چھڑاوا	נִפְשׁוֹ اپنی-جان-کا	כָּכָל مطابق	אֲשֶׁר- جو	יּוֹשֵׁת مقرر-کیا-جائے
		<a href="#">H7896</a>	<a href="#">H7896</a>	<a href="#">H7896</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7896</a>	<a href="#">H7896</a>

עֲלָיו :  
آس-پر

گا۔ پڑے دینا آسے جائے کیا مقرر بھی معاوضہ جتنا تو دے فدیہ کا جان اپنی وہ کہ جائے کیا فیصلہ اگر لیکن

31	אֶז- یا	בֵּן بیٹے-کو	יָנַח سینگ-مارے	בֵּת بیٹی-کو	אֶז- یا	יָנַח سینگ-مارے	כִּמְשַׁפֵּט قانون-کے-مطابق	הִזָּה اس	יַעֲשֶׂה کیا-جائے-گا	קָזָה : آس-کے-ساتھ
		<a href="#">H5055</a>	<a href="#">H5055</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H5055</a>	<a href="#">H5055</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H2088</a>

کو۔ بیٹی یا جائے مارا کو بیٹے چاہے ہے، نہیں فرق کوئی میں سزا

